



**ان عورتوں کی جماعت! صدقہ کیا کرو، کیوں کہ مجھ جہنم کے اندر تمہاری تعداد سب سے زیادہ دیکھائی گئی ہے انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا: "تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو" میں نے عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود تم (عورتوں) سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کے عقل کو ماؤف کردینے والا نہیں دیکھا"**

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عید گاہ کی جانب نکلے اور اس دوران عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا: "انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا: "تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو" میں نے عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود تم (عورتوں) سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کے عقل کو ماؤف کردینے والا نہیں دیکھا" عورتوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہمارے دین اور ہماری عقل کی کمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: "کیا عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں ہے؟" انہوں نے کہا: جی ہاں آپ نے فرمایا: "یہی اس کی عقل کی کمی ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائض ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روز رکھ سکتی ہے؟" عورتوں نے کہا: جی ایسا ہے آپ نے فرمایا: "یہی اس کے دین کی کمی ہے"

[صحیح] [متفق علیہ]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم عید کے دن عید گاہ کی جانب نکلے چوں کہ آپ نے عورتوں سے وعدہ کر رکھا تھا کہ انہیں الگ سے دین کی باتیں بتائیں گے، اس لیے اس دن وعدہ پورا کر دیا اس درمیان آپ نے کہا: اے عورتو! تم صدقہ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ مغفرت طلب کیا کرو کہ یہ دونوں گناہوں کی معافی کے دو عظیم ترین اسباب ہیں کیوں کہ میں نے اسرا کی رات جہنم کے اندر تمہاری تعداد زیادہ دیکھی اتنا سننے کے بعد وہاں موجود ایک عقل و خرد کی مالک با وقار عورت نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! جہنم کے اندر ہماری تعداد زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا: اس کی کئی وجوہات ہیں: تم نے کثرت لعن طعن اور گالی گلوچ کرتی ہو اور شوہر کے حق کا انکار کرتی ہو پھر آپ نے ان کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا: میں عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود تم (عورتوں) سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند، دور اندیش اور ضبط کے مالک شخص کی عقل کو ماؤف کر دینے والا نہیں دیکھا اس عورت نے عرض کیا: ہماری عقل اور ہمارے دین کی کمی کہاں سے عیاں ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: جہاں تک عقل کی کمی کی بات ہے، تو دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے عقل کی کمی ہوتی ہے جب کہ دین کی کمی ہے اس کے اعمال صالحہ نسبتاً کم ہوتے ہیں وہ اس طرح کے حیض کی وجہ سے وہ کئی دنوں تک نماز نہیں پڑھتی اور رمضان میں اس کے کئی روز چھوٹ جاتے ہیں لیکن یہاں یہ یاد رکھو کہ حیض کی وجہ سے نماز اور روز چھوڑنے کی بنا پر عورت کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا اور اس کی پکڑ بھی نہیں ہوگی کیوں کہ یہ فطری چیز ہے بالکل ویسے ہی، جیسے انسان فطری طور پر مال کا گرویدہ، جلد باز اور نادان ہوا کرتا ہے... لیکن آپ نے اس کی تنبیہ فرمائی تاکہ عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے

<https://www.sunnah.global/hadeeth/ur/show/10011>



النءاة الءيرية  
ALNAJAT CHARITY

